

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

جب فلسطین کا خود ساختہ ترازو اٹھایا گیا تو اس نے اسرائیل کو عالمی ادارے نے فلسطینی مہاجر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان مسائل کے حل کا فارمولا بھی خود طے کیا ترازو فلسطین کا اور ریاستی حل جمیز کیا گیا مگر اس کیلئے منظور ہوئی لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں پر گزشتہ سات دہائیوں میں عملدرآمد کی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی۔ اسکے برعکس امریکہ کی ایما پر اسرائیلی فوجیں آج کے دن تک بیٹھے اور بے گناہ مصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی میل رہی ہیں اور فرود کا علاقہ گزشتہ اڑھائی ماہ سے جاری جنگ میں کھل طور پر بہاؤ چکا ہے۔ اس جنگ میں امریکی کمک کے ساتھ اسرائیلی فوجوں نے 20 ہزار سے زائد فلسطینیوں بشمول خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے اور زندہ دیکھ جانے والے انسانوں کیلئے کوئی مکانہ محفوظ نہیں رہنے دیا جو اب خوراک اور ادویات کی کمیابی کے باعث بھی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں

\*\*\*\*\*

## 2024: Translation

When the matter of Palestine <sup>was</sup> proposed in the United Nation, a number of countries accepted the sovereignty of Palestinian People. Additionally, to resolve the conundrums of Palestine, they proposed the idea of separate state. As ill luck would have it, around seven <sup>decades</sup> years have ~~been~~ passed, however, no major development has manifested on the following issue. In contrast, with the help of the USA, the <sup>Israeli</sup> a Army have been killing the innocent people of Palestine. Moreover, the region of Gaza <sup>has been</sup> ~~the~~ completely destroyed, due to on going escalation. In this war, with the help of the USA, the <sup>Israeli</sup> Army killed almost ~~twenty~~ <sup>thirty</sup> thousand palestinian, including women and children. Those who survived the recent developments ~~are~~ failed to find a safe place. Such individuals are losing their lives due to the shortages of food and medicine.